



سوال

ایک امام چار رکعت نماز پڑھا رہے تھے، لیکن غلطی سے تین رکعت پر سلام پھیر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ مقتدیوں نے امام کو بتایا کہ تین ہوئی ہیں، امام نے پوچھا آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ مقتدیوں نے کہا کہ ہمیں بھی یقین نہیں تھا، پھر کچھ مقتدیوں نے کہا کہ دوبارہ چار رکعت پڑھائی جائیں گی اور بعض نے کہا نہیں صرف ایک ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اتنی لمبی بات چیت کے بعد امام چار پڑھانے کا یا ایک ہی؟

جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں زوال کے بعد کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی اور دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد مسجد میں گاڑھی ہوئی ایک لکڑی کی طرف گئے اور اس پر ٹیک لگالی، گویا آپ ناراض ہوں اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل فرمایا اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ لیا۔ جلد باز لوگ تو مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا: کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے سے بہت محسوس کی۔ ایک شخص جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا، کہنے لگا:

أُنسیتُ أُمَّ قُضْرَتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَمْ أُنْسُ وَلَمْ تُقْضَرْ» فَقَالَ: «أَلَا يَقُولُ ذُو الْيَمِينِ» فَهَأُولَا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوَّلَ طَوْلٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوَّلَ طَوْلٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرَبَّمَا سَأَلُوهُ: «ثُمَّ سَلَّمَ؟» فَيَقُولُ: «بُنْتُ أَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «ثُمَّ سَلَّمَ» (صحیح البخاری، الصلاة: 482)

اللہ کے رسول! کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز ہی کم کی گئی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور جتنی نماز رہ گئی تھی اسے ادا کیا، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کسی اور سجدہ سو کیا جو عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا جو لپٹنے عام سجدوں کی سطح یا اس سے کچھ طویل تھا۔ پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا۔

مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوال میں مذکور صورت حال میں ایک ہی رکعت ادا کی جائے گی اور سجدہ سو کیا جائے گا۔

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی

شیخ عطاء الرحمن علوی